



سوال

(484) ایسے وسائل جن سے رمضان میں زیادہ نیکیاں ملیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وہ کیا امور یا وسائل ہیں جنہیں اختیار کر کے کوئی مسلمان خاتون رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اہم ترین ذرائع یا وسائل، جو کسی بھی مسلمان، مرد و یا عورت، کے لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا باعث اور معاون ہو سکتے ہیں، درج ذیل ہیں:

1- اللہ کا خوف اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عزوجل بندے کے تمام طرح کے اعمال، افعال، اقوال حتیٰ کہ ارادوں تک سے آگاہ ہے، اور ان پر وہ بندے کا محاسبہ کرے گا۔ بندے کو جب کامل طور پر یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔

2- کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۲۸ ... سورة الرعد

”اللہ کے فیض بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ خبردار! اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔“

3- ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا جو اللہ سے دور کرنے والی اور دل کو سخت کر دینے والی ہوں، اور اس سے مراد ہے ہر طرح کے گناہ، بد قماش لوگوں سے میل جول، حرام کھانا، اللہ کے ذکر سے غفلت اور گندی فلمیں وغیرہ دیکھنا۔

4- اور عورت کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، انتہائی ضرورت کے علاوہ باہر جانے سے اجتناب کرے، اور اپنی ضرورت پوری ہو جانے پر فوراً گھر واپس آ جائے۔

5- رات کو پوری نیند لینا۔ بندی جب رات کو بروقت سو جاتا ہے تو اسے پچھلی رات قیام کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دن کے وقت مناسب نیند لے، تاکہ نماز میں بروقت ادا کر سکے، اور اپنے اوقات کو نیکی اور اباحت کے کاموں میں مشغول کرے۔



6۔ زبان کو نغیبت، طغلی، جھوٹ اور حرام لفتگو سے بچائے اور اس کی بجائے اللہ کے ذکر میں مشغول کرے۔

هذانا عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 371

محدث فتویٰ